بسم اللہ الرحمن الرحیم

تنظیم المدارس (اہلسنّت) پاکستان

سالانہ امتحان شہادۃ العالیۃ (بی اے) سال اول برائے طلباء سال ۱۴۳۶ھ/2015ء

وقت: تین گھنٹے | پہلا پرچہ: تفسیر و اصول تفسیر | کل نمبر: 100

نوٹ۔ حصہ اول کا پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے کوئی دو حل کریں جبکہ حصہ دوم سے کسی ایک سوال کا حل مطلوب ہے۔

حصہ اول: تفسیر

سوال نمبر 1: واذکر اذقال ابراھیم لابیہ وقومہ اننی براء ای بریٔ مماتعبدون الا الذی فطرنی خلقنی فانہ سیھدین یرشدنی لدینہ

(الف) عبارت مذکورہ پر حرکات وسکنات لگائیں اور ترجمہ و تشریح کریں۔ ۱۵

(ب) براء کونسا صیغہ ہے نیز "الا الذی" میں استثناء کونسا ہے؟ ۱۰

(ج) ۱۔اذقال سے پہلے اذکر نکال کر کیا اشارہ کیا؟ ۲۔اذکر کا مخاطب کون ہے؟
۳۔لابیہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں یا چچا؟ اور کیوں؟ ۱۵

سوال نمبر 2: فاقبلت امرتہ سارۃ فی صرۃ صیحۃ حال ای جاءت صائحۃ فصکت وجھھا لطمتہ وقالت عجوز عقیم لم تلد قط۔

(الف) ترجمہ و تشریح کریں۔ ۸

(ب) درج ذیل امور کی وضاحت کریں۔ ۱۲
۱۔سارۃ کی "ر" مخفف ہے یا مشدد؟ ۲۔آپ نے اپنے چہرے پر طمانچہ کیوں مارا؟
۳۔"عجوز عقیم" ترکیب میں کیا بنتا ہے؟

سوال نمبر 3: ومریم عطف علی امرءۃ فرعون ابنۃ عمران التی احصنت فرجھا حفظتہ فنفخنا فیہ من روحنا ای جبریل حیث نفخ فی جیب درعھا بخلق اللہ فعلہ الواصل الی فرجھا فحملت بعیسیٰ۔

(الف) عبارت مذکورہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ ۸

(ب) اغراض مفسر بیان کریں ۱۲

سوال نمبر 4: فقال لھم رسول اللہ صالح ناقۃ اللہ ای ذروھا وسقیھا وشربھا فی یومھا وکان لھا یوم ولھم یوم۔

(الف) عبارت مذکورہ کا ترجمہ کریں "ای ذروھا" سے کیا اشارہ کیا گیا ہے؟ ۱۰

(ب) ذروھا کونسا صیغہ ہے؟ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ اسکی اصل بتائیں۔ "وسقیاھا" کا عطف کس پر ہے ۱۰

حصہ دوم: اصول تفسیر

سوال نمبر 5 : قرآن پاک نے چار گمراہ فرقوں (مشرکین، یہود، نصاری، منافقین) کے ساتھ مخاصمہ کس طرح کیا؟ تفصیل سے لکھیں۔ ۲۰

سوال نمبر 6: قرآن پاک کا اسلوب اور انداز کیسا ہے؟ ناسخ و منسوخ بیان کریں۔ ۲۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تنظیم المدارس (اہلسنّت) پاکستان

سالانہ امتحان شہادۃ العالیۃ (بی اے) سال اول برائے طلباء سال ۱۴۳۶ھ/2015ء

وقت: تین گھنٹے | دوسرا پرچہ: حدیث و اصول حدیث | کل نمبر: 100

نوٹ: پہلا سوال لازمی ہے باقی ہر حصہ سے دو دو سوال حل کریں۔

القسم الاول ـــــــــــــ حدیث

سوال نمبر 1: عن طلحۃ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ فاتحۃ الکتاب فقال لتعلموا انھا سنۃ۔

(الف) حدیث شریف میں مذکورہ مسئلہ کا جواب تحریر کرتے ہوئے اپنا موقف مدلل طور پر تحریر کریں۔ ۱۲

(ب) غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں اختلاف اہل سنت و غیر مقلدین مع دلائل تحریر کریں۔ ۱۳

(ج) مرد اور عورت کا کفن سنت تحریر کریں۔ ۵

سوال نمبر 2: قال یا محمد ﷺ اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشھد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا رسول اللہ و تقیم الصلوۃ و توتی الزکوۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت۔

(الف) حدیث شریف کا ترجمہ کریں۔ ۵

(ب) مذکورہ حدیث شریف کے آخر میں حضور نے جو علامات قیامت بیان کیں وہ تحریر کریں۔ ۸

(ج) "ما المسؤل عنھا باعلم من السائل" سے منکرین علم غیب اپنا موقف بیان کرتے ہیں آپ اپنا موقف مع دلائل تحریر کریں۔ ۱۲

سوال نمبر 3: عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد و لکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤسا جھالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا۔

(الف) حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ تحریر کریں۔ ۸

(ب) علم اور علماء کی فضیلت پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ ۱۰

(ج) خط کشیدہ عبارت کی ترکیب نحوی تحریر کریں۔ ۷

سوال نمبر 4: درج ذیل اقسام بیوع میں سے کسی پانچ کی تعریف مع حکم تحریر کریں۔ ۲۵

۱۔ تلقی جلب ۲۔ منابذۃ ۳۔ ملامسۃ ۴۔ بیع المصراۃ ۵۔ مساومۃ ۶۔ بیع عرایا ۷۔ بیع نجش۔

القسم الثانی ـــــــــــــ اصول حدیث

سوال نمبر 5: ۱۔ امام ترمذی جب فرماتے ہیں "ھذا حدیث حسن صحیح یا حدیث حسن غریب صحیح" تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ۱۰

سوال نمبر 6: تعدد رُواۃ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کتنی اور کونسی ہیں ہر ایک کی تعریف تحریر کریں۔ ۱۰

سوال نمبر 7: درج ذیل اصطلاحات کی تعریف تحریر کریں۔ ۱۰

مرسل معنعن شاذ فرد نسبی مقطوع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تنظیم المدارس (اہلسنّت) پاکستان

سالانہ امتحان شہادۃ العالیۃ (بی اے) سال اول برائے طلباء سال ۱۴۳۶ھ/2015ء

وقت: تین گھنٹے | تیسرا پرچہ: اصول فقہ | کل نمبر:100

نوٹ: سوال نمبر 4 لازمی ہے باقی میں سے کوئی سے دو سوال حل کریں۔

سوال نمبر 1: (الف) قیاس کا لغوی واصطلاحی معنی لکھیں۔ ۱۰

(ب) قیاس کی شرط اور اس کے ارکان تحریر کریں۔ ۱۳

(ج) ولما صارت العلة عندنا علة باثر قدمنا على القياس الاستحسان۔

عبارت مذکورہ کا ترجمہ وتشریح کریں نیز استحسان کا لغوی وشرعی معنی تحریر کریں۔ ۱۰

سوال نمبر 2: (الف) علل طردیۃ اور علل مؤثرہ کی وضاحت کریں۔ ۱۲

(ب) ممانعۃ، فساد وضع اور مناقضۃ کی تعریفات وامثلہ تحریر کریں۔ ۹

(ج) سبب، علت، شرط اور عدالت کی تعریفات وامثلہ تحریر کریں۔ ۱۲

سوال نمبر3: واقامة الشيء مقام غيره نوعان احدهما اقامة السبب الداعي مقام المدعو كما في السفر والمرض۔

(الف) عبارت کا ترجمہ وتشریح کریں اور بتائیں سبب داعی کون ہے مدعو کون ہے؟ ۱۰

(ب) کیا عقل علل موجبات میں سے ہے یا نہیں؟

معتزلہ اور اشعریہ کا اختلاف مع دلیل لکھ کر قول صحیح بیان کریں۔ ۲۳

سوال نمبر4: والاغماء مثل النوم في فوت الاختيار وفوت استعمال القدرة حتى منع صحة العبارات وهو اشد منه لان النوم فترة اصلية وهذا عارض ينافي القوة اصلاً۔

(الف) عبارت مذکورہ کا ترجمہ وتشریح تحریر کریں۔ ۱۲

(ب) ۱۔ اغماء کی تعریف کریں؟ ۶

۲۔ کیا اغماء تمام حالات میں ناقض وضو ہے یا بعض حالات میں؟ وضاحت کریں ۸

۳۔ نیند کس حال میں ناقض وضوء ہے اس فرق کی وجہ مفصل بیان کریں۔ ۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تنظیم المدارس (اہلسنّت) پاکستان

سالانہ امتحان شہادۃ العالیۃ (بی اے) سال اول برائے طلباء سال ۱۴۳۶ھ/2015ء

وقت: تین گھنٹے | چوتھا پرچہ: فقہ | کل نمبر: 100

نوٹ: سوال نمبر 1 لازمی ہے باقی سوالات میں سے کوئی سے دو سوال حل کریں۔

سوال نمبر 1: وتعتبر الكفاءة ايضاً في الدين وتعتبر في المال۔

(الف) ترجمہ کریں کفاءت کا لغوی واصطلاحی معنی لکھیں۔ ۱۰

(ب) کفاءۃ فی الدین میں امام صاحب اور امام محمد کا اختلاف مع دلیل تحریر کریں۔ ۱۰

(ج) کتنے مال میں کفاءت معتبر ہے اسکی مقدار کیا ہے اس پر دلیل کیا ہے؟
کیا فقیر عورت غنی کا کفو ہو سکتی ہے شیخین کا اختلاف مع دلیل تحریر کریں۔ ۱۴

سوال نمبر 2: والكنايات على ضربين منها ثلثة الفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها الا واحدة وهي قوله اعتدي استبرئي رحمك انت واحدة۔

(الف) عبارت کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ ۱۳

(ب) مذکورہ تین الفاظ سے طلاق رجعی کیوں ہوتی ہے مفصلاً بیان کریں۔ ۱۲

(ج) مذکورہ تین الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں؟
انت واحدۃٌ، انت واحدۃً دونوں کا ایک حکم ہے یا الگ الگ؟ ۸

سوال نمبر 3: واذا طلق الرجل امرءته طلاقا بائناً او رجعيا او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلثة اقراء۔

(الف) عبارت کا ترجمہ و تشریح کریں۔ ۹

(ب) درج ذیل امور کی وضاحت کریں۔ ۲۴

۱۔ طلاق مغلظہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟
۲۔ وھی حرۃ کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟
۳۔ ممن تحیض کی قید کا فائدہ کیا ہے؟
۴۔ فرقہ بدون الطلاق کی صورت لکھیں۔
۵۔ "ثلثۃ اقراء" میں اقراء سے مراد کیا ہے؟
۶۔ عدت کا فلسفہ کیا ہے؟

سوال نمبر 4: ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم۔

(الف) ترجمہ و تشریح کریں۔ ۹

(ب) مذکورہ دونوں مسئلوں پر دلیلیں دیں۔ ۸

(ج) کاٹے ہوئے ہاتھ کا کیا کیا جائے؟ ۸

(د) اگر چور کاٹے ہوئے ہاتھ کو جڑوانا چاہے تو کیا حکم ہے؟ ۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تنظیم المدارس (اہلسنّت) پاکستان

سالانہ امتحان شہادۃ العالیۃ (بی اے) سال اول برائے طلباء سال ۱۴۳۶ھ/2015ء

وقت: تین گھنٹے | پانچواں پرچہ: ادب عربی و بلاغت | کل نمبر:100

نوٹ: ہر قسم سے کوئی دو، دو سوال حل کریں۔

القسم الاول .... ادب عربی

سوال نمبر1: درج ذیل عبارات میں سے پانچ کا اردو ترجمہ کریں۔ ۲۵

فدلفت الیہ لاقتبس من فوائدہ و التقط بعض فرائدہ	تحمی عن النکر و لاتتحاماہ و تزحزح عن الظلم ثم تغشاہ
فوجدتہ مثافنا لتلمیذ علی خبز سمیذ و جدی حنیذ	یتحلی برواء و روایۃ و مدارۃ و درایۃ و بلاغۃ رائعۃ
یفتر عن لؤلؤ و عن برد و عن اقاح و عن طلع و عن حبب	استغزر وادیمتہ و اجملوا عشرتہ و جملوا قشرتہ

سوال نمبر2: درج ذیل عبارات میں سے پانچ کا اردو ترجمہ کریں ۲۵

قلما سلم مکثار او اقیل لہ عثار	واعتصم مما یصم واسترشد الی ما یرشد
یا رواۃ القریض و اساۃ القول المریض	ثم قال لی ادن فکل فقم و ان شئت فقم و قل
و اغراہ عدم العراق بتطلیق العراق	فزحزحت شفقا غشی سنا قمر

سوال نمبر3: درج ذیل عبارات میں سے پانچ کا سلیس اردو ترجمہ کریں ۲۵

فعن لنا اعمال الرکاب فی لیلۃ فتیۃ الشباب	و لا اسمح بمواساتی لمن یفرح بمسائاتی
و کل من یطلب عندی جنی فما لہ الا جنی غرسہ	و لا ترج الود ممن یری انک محتاج الی فلسہ
و الذی احلنی ذراکم لا تلمظت بقراکم	ففصلت عنہ بکبد مرضوضۃ و دموع مفضوضۃ

القسم ثانی .... بلاغت

سوال نمبر4 (الف) صاحب مختصر المعانی کی ذکر کردہ نظم قرآن کی تعریف و توضیح سپرد قلم کریں۔ ۷

(ب) حشو، تطویل، تعقید اور قاعدہ کی تعریف لکھیں ۸

(ج) کتاب مختصر المعانی کی ترتیب کی وجہ حصر بیان کریں۔ نیز بتائیں کتاب مختصر المعانی متن ہے یا شرح؟ ۱۰

سوال نمبر5: (الف) غرابت اور مخالفت کی تعریف و مثال بیان کریں ۸

(ب) ولیس قرب قبر حرب قبر کس کی مثال ہے؟ ممثل لہ کی تعریف بھی کیجئے ۶

(ج) خبر کے صدق و کذب کا معیار کیا ہے؟ مختصر المعانی کی روشنی میں واضح کریں ۱۱

سوال نمبر6: (الف) ولھا طرفان اعلی و ھو حد الاعجاز و ما یقرب منہ عبارت مذکورہ کی تشریح و توضیح سپرد قلم کریں ۸

(ب) ما یقرب منہ کے معطوف علیہ اور منہ کی ضمیر کا مرجع متعین کریں ۸

(ج) ان کان لنسبتہ خارج تطابقہ او لا تطابقہ فخبر و الا فانشاء

مختصر المعانی کی روشنی میں عبارت مذکورہ کی تشریح کریں ۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تنظیم المدارس (اہلسنّت) پاکستان

سالانہ امتحان شہادۃ العالیۃ (بی اے) سال اول برائے طلباء سال ۱۴۳۶ھ/2015ء

وقت: تین گھنٹے | چھٹا پرچہ: عقائد و منطق | کل نمبر: 100

نوٹ: ہر قسم سے دو دو سوال حل کریں۔

القسم الاول ــــــ عقائد

سوال نمبر1: رؤیتہ ﷺ فی الیقظۃ ممکنۃ و واقعۃ فقد ذکر العلماء نفع اللہ بھم ان کثیرا من ائمۃ الصوفیۃ رأوہ ﷺ فی المنام ثم رأوہ فی الیقظۃ و سألوہ عن اشیاء من مصالحھم و مآربھم۔

(الف) پیش کردہ عبارت پر اعراب لگا کر سلیس اردو میں ترجمہ کریں۔ ۱۰

(ب) کوئی سے تین بزرگوں کے نام تحریر کریں جنہوں نے حالت بیداری میں زیارتِ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی ہو۔ ۵

(ج) حالت بیداری میں زیارت کیسے ممکن ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔ ۱۰

سوال نمبر2: (الف) گستاخ رسول کی مذمت پر دو قرآنی آیات پیش کریں۔ ۱۰

(ب) گستاخ رسول کی توبہ مقبول ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ائمہ مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کا نظریہ بالتفصیل سپرد قلم کریں۔ ۱۵

سوال نمبر3: درج ذیل میں سے کسی پانچ پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ ۲۵

کرامت ولی — اذان سے قبل صلوۃ وسلام — زیارت قبور کا مستحسن طریقہ

اثبات عذاب قبر — دعا بعد از نماز جنازہ — محبت اہل بیت

القسم الثانی ــــــ منطق

سوال نمبر4: (الف) قطبی کے متن اور ماتن کا نام تحریر کریں۔ ۶

(ب) قطبی کس فن کی کتاب ہے؟ فن اور کتاب کا اصل نام بتائیں ۶

(ج) اس فن کی تعریف، موضوع، غرض وغایت اور اہمیت تحریر کریں۔ ۱۳

سوال نمبر5: (الف) تصور مطلق اور تصور فقط میں فرق تحریر کریں۔ ۶

(ب) مقسم، قسم اور قسیم کسے کہتے ہیں۔ ۹

(ج) وہم، ظن اور شک تصدیق کی قسموں سے ہیں یا تصور کی قسموں میں سے؟ دلائل کے ساتھ وضاحت کریں۔ ۱۰

سوال نمبر6: درج ذیل اصطلاحات کی تعریفات تحریر کریں۔ ۲۵

فکر — دور — تسلسل

ترتیب — لابشرط شیء